

10495 - بیوی کا اپنی سہیلیوں جیسے کپڑے اور زیور کا مطالبہ

سوال

میری بیوی پروگراموں اور دعوتوں اور تقریبات میں شریک ہوتی ہے اور دوسری عورتوں کو مختلف قسم کے زیورات اور کپڑے پہنے ہوئے دیکھنے کے بعد مجھ سے بھی ان جیسے زیورات اور کپڑوں کا مطالبہ کرتی ہے ، لیکن میری ماہانہ آمدن دوسری عورتوں کے خاوندوں جیسی نہیں ، لہذا مجھے اپنی بیوی سے کس طرح کا معاملہ کرنا چاہیے ؟

پسندیدہ جواب

الحمد لله.

نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک عظیم الشان حدیث مروی ہے جس میں اس معاملہ کو بیان کیا گیا ہے اور ایسے عمل کو ہلاکت قرار دیا گیا ذیل میں ہم اس حدیث کو بالنص پیش کرتے ہیں ہوسکتا ہے کہ آپ کی بیوی کو اس سے نصیحت حاصل ہو جائے :

امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب التوحید میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لمبا خطبہ ارشاد فرمایا جس میں دنیا و آخرت کے معاملات ذکر فرمائے اور فرمایا :

(بنو اسرائیل کی ابتدائی ہلاکت یہ تھی کہ ایک غریب اور فقیر شخص کی بیوی اسے لباس اور یا پھر زیورات لانے کی حد سے زیادہ تکلیف دیتی یا یہ فرمایا کہ : غنی کی عورت زیورات کی تکلیف دیتی ---) دیکھیں السلسلۃ الصحیۃ للالبانی رحمہ اللہ حدیث نمبر (591)

اسے نقل کرنے کے بعد علامہ البانی رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح الاسناد اور امام مسلم کی شروط پر ہے -

لہذا ہمارے مسلمان بھائی آپ پر ضروری ہے کہ آپ اپنی بیوی کو قناعت اور زہد کی تلقین کریں اور اس سے یہ وعدہ کریں کہ اللہ تعالیٰ جب رزق میں کشادگی فرمائے گا تو پھر تجھے یہ سب کچھ لا کر دوں گا -

اور اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان بھی یاد دلائیں :

کشادگی والے کو اپنی کشادگی سے خرچ کرنا چاہیے اور جس پر اس کی روزی تنگ کی گئی ہو اسے چاہیے کہ

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اسے دے رکھا ہے اسی میں سے (حسب استطاعت) خرچ کرتا رہے ، کسی شخص کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا ، اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد آسانی و فراغت بھی عطا فرما دے گا الطلاق (7) - (

واللہ اعلم .